

# مر کے جینے کا پاؤں مزا خیر سے

مفتی اختر رضا خان القادری

[English Translation by Aqib alQadri](#)

مر کے جینے کا پاؤں مزا خیر سے، راہ طیبہ میں آے قضا خیر سے

**May I safely enjoy my life after my death!**

**On the path of Medina, may safely come my death!**

کیجئے میرے حق میں دعا خیر سے، خاک طیبہ میں ہو میری جا خیر سے

**Supplicate well in my favour, for my safety!**

**May my abode be in the sands of Medina, with safety!**

مجھ کو ان کا اشارہ ملا خیر سے، میں مدینے کی جانب چلا خیر سے

**My good fortune, I received the master's permission!**

**I set off towards Medina, in his care and protection!**

خوب گزریں گے صبح و مساکیر سے، ان کے در پہ جو بستر جما خیر سے

**The mornings and evenings will pass well, in prosperity!**

**For I have camped at his doorstep, with safety!**

عام ہے ان کا جود و سخا خیر سے، ان کے در پہ ہیں شاہ و گدا خیر سے

**Our good fortune, widespread is his benevolence and generosity!**

**Prospering at his door are kings and beggars, seeking charity!**

وہ اٹھی موج بحر عطا خیر سے، یا وہ دست کرم اٹھ گیا خیر سے

**The wave of benevolence surges from the sea, with good fortune!**

**Or shall I say, his benevolent hands are extended, in generosity!**

شام سے ہم کو طیبہ میں نیند آگئی، زندگی کا سویرا ہوا خیر سے

**I dozed off in the sunset of my life in Medina!**

**My life began with a new dawn, with safety!**

خاک طیبہ کو پا کر ہوں میں شادماں، میرا اختر درخشاں ہوا خیر سے

**How ecstatic is "Akhtar" to get the dust of Medina!**

**My star now shines bright, in prosperity!**

Billions of blessings and salutations of peace be upon the Holy Prophet; and upon his noble wives, his noble progeny, his noble companions and all those who rightly follow him until the Last Day.